


بچوں کے لئے بائبل
تحائف



سمسُون ،
خدايہ سُنْد
پہلوان



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Janie Forest
Alastair Paterson

کے مطابق: Lyn Doerksen

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔





واریاہ کالا گو اسرائیلچہ زمینہ پیٹھ اوس اکھ نورا یمسند ناو
منوحہ اوس۔ یمن دوں باژن اوس نہ شرا مورا کینہہ اکہ دوہہ او
خدا وند سند فرشتہ منوحہ سنز آشنہ نش تہ
ووننس "ژمے بنی اکھ خاص اولاد۔"



تمہ وُنی یہ رُژ شیچھ پننِس خاندارس۔ منوحہ ہن مونگ دُعا۔
"ہے میانہ خدایہ اسہ نشہ یتہ بیہ اکہ لٹہ، اسہ ہیچھناو تہ اسی
کیاہ کرو اُمس بچہ سندِ باپتہ۔"



فِرِشْتَن وون منوحَه هس ز اَمس بچس چُهِنه
زانِه ته مس کاسُن - يه گژِه نه زانِه شراب
چيُون ته کينه خاص چيز گژِهِنه زانِه ته
کهيُون - خدائين چُه يه بچه ژورمَت اکِه
مُنصف بنه باپته يه کر اسرَائيلس رهبري -





خدا سندن

بندن گڑھ ضرور

خدایہ سندن مدد آسن۔ تمو

تروو خدا مولے پنے زندگی منتر

دڑکھ نہ افس کانہہ جایی۔ تہ اوے آیه پنیو


دشمن فلسطینیو دسی احمق بناونہ۔ مگر یتھے یمو خدایہ

سنر عبادت کرنی لاج خداین بوزکھ۔ تمی سوزکھ اکھ بچہ

یس دنیاہک ساروے کھوتہ طاقتور نفر اوس۔



أَمْسِ خَوْتُونِ زَاوِ بَچَهِ تِ نَاوِ
کُورِ بَسِ سَمْسُونِ - بَچَهِ
رُودِ بُوڈِ گُزْهَانِ تِ خُدا
وَنَدَنِ بَخْشِشِ فَضْلِ - خُدا
وَنَدِ سُنْدِ رُوحِ رُودِ سِ اَنْدِ
پُکِی - سَمْسُونِ بَنِیَاوِ وَا رِیَاہِ
طَاقَتِ وِر - اَکِ دَوَّہِ مِلُونِ
اَکِسِ جَوَانِسِ سِتِی تِہْفِ
تِ زِہْنِ سِہِ مَارِتِہِ -





امہ پتہ تل تھی مز
تمہ مانچھک یس مانچھ تلیو سہ
سندس مورد جسمس منز بنومت
اوس۔ امی بناو اکھ پریڑھ۔ "کھینہ
والس نشہ دراو کینہہ کھین تہ پتہ کوڈ
اکس طاقت ورس نشہ موڈر موڈر۔"







یہ پریژہ ہیچ نہ کانسی گڈتھ۔
مگر سمسُونہ نو آشنہ یوسہ
فلسطینی اس وئی یہ پننن و پسن۔
امی چیزن کور سمسُون ناراض۔




سَمْسُونِ سَیْدِ واری نارو نارِ ییلہ فلسطینیو اُمسَنزِ آشنی
اُمسندسے یارِ جانیسِ دِژ۔ اُمی کورِ انتقامِ ہینکِ فاصلہ۔ مگر
کتہ پاٹھی؟ سَمْسُونِ رٹی گوڈِ تَرے ہتھ پڑھی لاوی۔ دوں دوں
پڑھی لاوین گنڈنِ پانہ وانی لٹی۔ تہ منزسِ تھاونکہ گنڈتہ دزونہ
مشالہ۔




امہ پتہ تراوی سمسونن یم پڑھ لاوی فلسطینی کہن منز۔




وونى اسى فلسطينى ته انتقام ژهاران - سمسونن ديوت يمن
پن پان رنك ته رز گندنگ موقه تاكه فلسطينى مارن تس -



مگر خداوند سُنَدِ رُوحِ
ووتھ سَمْسُونِ نَسِ پِٹھ۔
تَمی ژچہ رزوز تہ مورہ
خَر سَنزَاکھ دِنْدِ وُطی
اُدِج تَجَن تہ مَارَنی اکھ
سَاسِ دَشْمَن۔




فلسطینین ہنز ژھانڈو جماژ اسہ سمسُونس ژھاران۔ اکہ راژ
روٹکہ سہ ژھلس اُکس شہرس منز تہ کرکہ شہرچ سارے
پھاٹکہ بند۔ مگر سمسُون دراو یم شہرکی پھاٹکہ نکھس
لدتہ۔




مگر سمسُون در او نه خدا سُندين توقعاتن پيٽه پور۔ خداين دڙ
اُمس قوت پتس کالس يه تَسُنَد خدمت گذار اوس۔ اکہ دوپہ
بوو امی پننہ امہ طاقتک راز اُکس ماری منڙ کور يسُنَد ناو دليلہ
اوس۔ دليلہ اُس ڙکہ فلستيني جاسوس
تمہ کاسنوو تمہ وز سمسُونس اُکس
نایدس اتہ مس يیلہ سہ شونگتہ اوس۔




أمہ پتہ کور فلسطینی سپہو اُمس پیٹھ دلیدہ
ہندس شونگن کٹھس منزے حملہ۔
سمسُونن لوڈ پور ہمتہ سان۔
مگر اُمسندسورے طاقت اوس
رومت۔ یمو دشمنو انہ اُمس
اچھ تہ کورتہ۔ اون تہ کمزور
سمسُون بنیوو فلسطینی غلام۔
تم اسی اُمس اسان تہ ٹھٹھ
کران ونان خدایہ سُنڈ بند۔




فلسطينيو رُون اكه سال تمو
گر پنیس گاڈ دیوتاہس ڈگان
سنز پوزا یہ سمسون تہندس
اتہس منز دنہ باپتہ۔ ڈگون
سندس مندرس منز چيو تمو
گھلہ شراب تہ کورکھ نژناہ
گیندناہ۔ امہ پتہ اونکھ
سمسون تہ وونہس ز وونی
ہاوسہ پنی کر تب۔



اَکری لڑکن اوڻ سمسُون تہ تھوون اَکس تھمبس سیتی یمن
تھمبن پیٹھ مندر کھڑا اوس۔ مندرکس پیشس پیٹھ اسی ترے
پتھ فلسطینی تہ مندرس منز تہ اسی واریاہ، یمہ ساری اسی
امس ریڑھ تلان۔



اتھ بآندی وانس منڑ اوس وونی سمسونس مس تہ لوگمت ینہ۔
امی کور پنس خداوندس کن التجا۔ "ہے خداوند! بیہ اکہ
پھر گرمے پن طاقت عطا۔ تاکہ بہ یمہ یمن پنن دن
اچھن ہند
انتقام۔"



کياہ خداوند کرياه سمسُونِسَ بيہ طاقت عطا؟ کياہ سمسُونِ
بيکياہ ناممکنس ممکن بناوتہ؟ آ! آ!

بلکل کھمان تہ جکھان اون

سمسُونِ مندرگ يہ تھمب
گڈتہ تہ اتھی ستی او دجون

ناوک يہ مندر پتھر وُستہ

يتہ تل ساسہ بدین

فلسطینين ستی

سمسُونِ تہ مود۔



سمسون، خدایہ سُنْد پہلوان

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

منصف 13-16

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:
پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

